

الكتاب، القرآن، الفرقان، البرهان

خالد مہاجرزادہ

﴿0﴾ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿0﴾

☆. اَعُوذُ (مادہ . ع و ذ) . پناہ۔ (Protection)

☆۔ ع و ذ۔ مادے سے بننے والے 6 الفاظ جو الکتاب میں 17 دفعہ آئے ہیں۔

مضارع	میں پناہ لیتا ہوں	أ + عُوذُ	113/1	7	1	أَعُوذُ
مضارع (إِعَادَة سے)	میں پناہ لیتی ہوں، اس (مونث) کی	أَعِيذُهَا	3/36	1	2	أَعِيذُهَا
مضارع	وہ پناہ لیتے ہیں	يَ + عُوذُوا + وَنَ	72/6	1	3	يَعُوذُونَ
امر	پس، تو پناہ لے	ف + إِس + ت + عِذْ	41/36	4	4	فَاسْتَعِذْ
مصدر ميمي	پناہ لی گئی	مَ + عَادَ	12/23	2	5	مَعَادَ
ماضي	میں نے پناہ لی	عَذْتُ	40/27	2	6	عَذْتُ

﴿0﴾ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿0﴾

☆. بِاللّٰهِ . دراصل یہ ب + اللہ ہے۔ . ب . حرف جر ہے، سے اور ساتھ، کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

☆۔ حروف جر (اضافت) اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کرتے ہیں۔ یہ 11 حروف جر، الفاظ کو ملاتے بھی ہیں۔

حروف جر	تعداد	معنی	استعمال
بِ	2,538	سے، ساتھ	بِاللّٰهِ (139)
تَ	8	قسم	تَاللّٰهِ (8)
كَ	282	جیسا	كَمَثَلِ، (14) .
لِ	3,656	کے لئے، البتہ	لِلرَّحْمٰنِ (9)
وَ	1	قسم	وَتَاللّٰهِ (1)
مِن	3,221	سے	مِنَ اللّٰهِ
عَنْ	462	سے	عَنْ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ
عَلَى	1,439	اوپر	عَلَى قُلُوْبِهِمْ
حَتَّى	142*	یہاں تک (دو افعال و اعمال کی درمیانی حد)	حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
فِي	1,692	میں	فِي قُلُوْبِهِمْ
إِلَى	737	کی طرف	إِلَى شَيْطٰنِهِمْ
	14,178		کل حروف جر (اضافت)

☆. اللَّهِ. (مادہ. ال ل ل ہ) -Allah-

اللَّهِ. کا مادہ عام طور پر، ال-ہ، سمجھا جاتا ہے۔ جس سے اللہ-god- جس کی عبادت کی جائے یعنی معبود)۔ اللہ- اسم نکرہ ہے۔ لہذا ال+اللہ. خاص اللہ. The God کا مفہوم لیا جاتا ہے۔ اللہ کا مفہوم کسی بھی زبان میں ادا نہیں ہو سکتا، ال ل ہ- مادے سے بننے والے 2 الفاظ جو الکتاب میں 2702 دفعہ آئے ہیں۔۔

1	اللَّهُ (980). اللَّهُ (592). اللَّهُ (112).	2,697		
2	اللَّهُمَّ	5	8/32	اللَّهُ + م + م

☆ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿0﴾

☆ مِنَ (3,887) حرف جر ہے۔ طرف سے، میں، سے، جن، جو اور کون، کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

☆ مِنَ حرف سے مل کر بننے والے دیگر 11 الفاظ جو الکتاب میں 3887 دفعہ آئے ہیں۔

1	مِنَ	2396	2/4	مِنَ	طرف سے
2	مِنَّا	25	2/127	مِنَ + نَا	ہماری طرف سے
3	مَنْ	1099	43/36	مَنْ	جو، کون
4	بِمَنْ	10	16/125	بِ + مَنْ	جو ساتھ
5	لِمَنْ	94	2/102	لِ + مَنْ	لئے جو
6	لِمِنْكُمْ	1	9/56	لِ + مِنْ + كُمْ	تم میں سے جس کے لئے
7	مِنْكُمْ	113	2/65	مِنْ + كُمْ	تم میں سے جو
8	مِمَّنْ	36	2/114	مِنْ + مَنْ	میں سے + جو
9	مِمَّ	1	86/5	مِنْ + مَ	میں سے + جس (جس میں سے)
10	مِمَّا	111	3/92	مِنْ + مَا	میں سے + جس (جس میں سے)
11	فَمَنْ	1	2/38	فَ + مَنْ	پس جو کوئی
			3887		من سے بننے والے کل حروف

☆ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿0﴾

☆ الشَّيْطَانِ. (مادہ. ش ط ن.) شَطْن (88). شيطان۔

☆ ش ط ن۔ مادے سے بننے والے 4 الفاظ جو الکتاب میں 88 دفعہ آئے ہیں۔۔

1	الشَّيْطَانَ	68	2/36	ال + شَيْطَانَ	خاص شيطان
2	شَيْطَانًا	2	43/36	شَيْطَانَ + ا	شيطان
3	الشَّيَاطِينُ	17	23/97	ال + شَيْاطِينُ	خاص، شياطين
4	شَيْاطِينِهِمْ	1	2/14	شَيْاطِينُ + هِمَّ	شياطين، اُن کے

﴿ 0 ﴾ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

☆ الرَّجِيمُ (مادہ ر ج م .) (14). دور کرنا، علیحدہ کرنا

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (6/98)-O

پس جب تو القرآن کی قرأت کرے! پس پناہ مانگ اللہ کے ساتھ الشیطان دھتکارا ہوا میں سے۔

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (16:99)

بے شک وہ اُس کے لئے سلطان اُن پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے رہتے ہیں!

الکتاب میں اللہ نے کہیں ابلیس یا الشیطان کو سگسا نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو شیطان کا وجود نہ ہوتا،

جب ہم الکتاب کی باقی آیات دیکھتے ہیں، تو ہمیں، دور کرنا، دھتکارنا، علیحدہ کرنا یا جلا وطن کرنا ہے۔

قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ لِأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (19:46)

(والد) بولا۔ کیا تو میرے آلہت کی طرف راغب ہے؟ اگر تو ایسا نہیں کرتا تو میں تجھے دور کر دوں گا اور میں ہجرت کی مہلت دیتا ہوں۔

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (19:47)

بولا (اے والد) سَلَامٌ عَلَيْكَ میں یقیناً تیرے لئے استغفار کروں گا میرا رب میرے لئے مہربان ہے۔

☆ ر ج م۔ مادے سے بننے والے 10 الفاظ جو الکتاب میں 14 دفعہ آئے ہیں۔

اسم مصدر	رَجِمَ (ن) .. رَجَمًا (1) . (18/22) . رُجُومًا (1) . (67/5) .	دور کرنا، دھتکارنا، علیحدہ کرنا یا جلا وطن کرنا ہے۔				
1	رَجَمًا	1	18/22	رَجِمَ + ا	رجم	اسم منصوب
2	رَجِيمٌ	4	15/17	رَجِيمٌ	رجم کر دیا	مفعول
3	الرَّجِيمِ	2	81/25	ال + رَجِيمِ	خاص، رجم کر دیا	مفعول
4	لَرَجْمَنَّكَ	1	11/91	لَ + رَجَمَ + نَا + كَ	البتہ رجم کرتے ہیں، ہم تجھے	مضارع
5	لَنَرَجْمَنَّكَ	1	36/18	لَ + نَ + رَجَمَ + نَ + نَ + نَ + كُمْ	البتہ، ہم رجم کریں گے۔ ضرور، تمہیں	مضارع
6	لَأَرْجُمَنَّكَ	1	19/46	لَ + أَرْجَمَ + نَ + نَا + كَ	البتہ، تو رجم ہوگا، ضرور، ہم سے، تو	مضارع
7	رُجُومًا	1	67/5	رُجُومًا + ا	رجم	فعل
8	الْمَرْجُومِينَ	1	26/116	ال + مَ + رُجُومَ + يْنَ	خاص، رجم کئے ہوئے	مفعول
9	تَرَجُمُونَ	1	44/20	تَ + رَجُمُوا + نَ	تم رجم کرو، مجھے	مضارع
10	يَرَجُمُونَكُمْ	1	18/20	يَ + رَجُمُوا + كُمْ	وہ رجم کرے گا، تمہیں	مضارع

نوٹ۔ اس آیت کا لفظی اور سلیس اردو میں ترجمہ لکھیے

اَعُوذُ	بِاللّٰهِ	مِنَ	الشَّيْطٰنِ	الرَّجِيْمِ	○

سوال۔ - اَعُوذُ بِاللّٰهِ کس وقت پڑھنا ضروری ہے؟

☆ - قرأت القرآن کے وقت **فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ** -O (6/98)
پس جب تو القرآن کی قرات کرے! پس پناہ مانگ اللہ کے ساتھ الشیطان دھتکارا ہوا میں سے۔
☆ - جب شیطانی خیالات پریشان کریں۔

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -O (7/200)

اور جب الشیطان کی طرف تجھے نَزْغَنَّ (منفی خیالات) تجھ آنے لگیں نَزْغٌ (منفی سوچ بن کر) ہوں۔ پس تو اللہ کی پناہ مانگ۔ بے شک وہ سَمِيعٌ اور عَلِيمٌ ہے O
☆ - شیطانی خیالات کس طرح دور کئے جائیں؟

دَفْعَ بَالْتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّبِيَةِ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ -O (23/96)

برائی کو اُس سے دَفْعُ کرو جو اَحْسَنُ ہے۔ ہمیں علم ہے وہ جس کے ساتھ (احسن ہونے کے بارے میں) وَصَفُ کرتے ہیں۔ O

وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ -O (23/97)

اور کہہ! اے میرے رب ہیں هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ O

وَاعُوذُ بِكَ رَبَّ اَنْ يَّحْضُرُونِ -O (23/98)

اے میرے رب تیری پناہ چاہیے۔ جب وہ حاضر ہوتے ہیں۔ O

يَا اَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا -O (19/44)

☆ - شیطان کون ہے؟

اے میرے بیٹے! الشیطان کا عبد مت بن۔ بے شک الشیطان الرَّحْمٰنِ کا گناہ گار ہے۔ O

☆ - شیطان کا رویہ انسان سے کیسا ہے؟

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا -O (17/53)

اور میرے بندوں کو کہہ! اگر الشیطان اُن کے درمیان نَزْغٌ (منفی خیالات) پیدا کرے تو، وہ کہیں جو احسن ہے۔

بے شک الشیطان الْاِنْسَانِ کے لئے مُّبِينٌ (واضح) عَدُوٌّ ہے۔ O

☆ - شیطان انسان کو کہاں بیٹھ کر بھٹکائے گا؟

قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ -O (7/16)

(ابلیس) بولا، ”پس تو نے مجھے بھٹکایا ہے اس لئے اب میں تیرے صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ میں بیٹھوں گا“۔ O

قارئین! معلوم ہے، کہ الشیطان کے ایک مؤمن کو بھٹکانے کا سب سے آسان صِرَاطِ، اللہ کی صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ہے اور وہ صرف الْكِتَابِ ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

عَوَذٌ، ب، اللہ، من، شَطْنٌ، رَجَمٌ،

عَوَذٌ (پناہ)، ب (ساتھ)، اللہ (اللہ)، من (سے)، شَطْنٌ (شیطان) اور رَجَمٌ (دھتکار) سے بننے والے کل 44 الفاظ کا علم آپ نے حاصل کیا جو
الکتاب میں 20,886 آئے ہیں، انہیں یاد کر لیں، جب بھی تلاوت میں آپ یہ الفاظ سنیں گے تو ان کا فہم آپ کے دماغ سے ذہن میں آجائے گا۔

اعادہ

أَعُوذُ . أُعِيذُهَا . يُعُوذُونَ . فَاسْتَعِذْ . مَعَاذَ . عُذْتُ . پناہ۔ (Protection)

حروف : ب (ساتھ) . ث (قسم) . و (قسم) . ك (جیسا) . ل (کیلئے) . ف (پس) . عَن (طرف سے) . اِلَى (کی طرف) . عَلَى (اوپر) . حَتَّى (حتی) . فِی (میں) . اَل (خاص) . سَ (ضرور) . مِّن (سے) .

مِن (سے) . حرف سے مل کر بننے والے الفاظ - مِّنَّا . مِنْكُمْ . لِمِنْكُمْ .

مَّا (جو) کے اضافے سے مل کر بننے والے الفاظ - مِمَّ . مِمَّا .

مَنْ (کون) کے اضافے سے مل کر بننے والے الفاظ - مِمَّنْ .

مَنْ (کون) . بِمَنْ . لِمَنْ . فَمَنْ .

الشَّيْطَانَ . شَيْطَانًا . الشَّيَاطِينُ . شَيْطَانِيَهُمْ . شَيْطَانِ دُشْمَنِ

رَجِمًا . رَجِيمًا . الرَّجِيمِ . لَرَجِمَنَّكَ . لَرَجِمَنَّكُمْ . لَرَجِمَنَّكَ . رُجُومًا . المَرَجُومِينَ . تَرَجُمُونَ . يَرَجُمُونَكُمْ . دھتکار

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆۔ الکتب میں حروف دو قسم کے ہیں، سٹشی اور قمری۔ قمری حروف یاد رکھنے کے لئے یہ جملہ یاد رکھیں۔ حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں تمام قمری حروف استعمال ہوئے ہیں، ان کے علاوہ ت۔ ث۔ ذ۔ ر۔ ز۔ س۔ ش۔ ص۔ ض۔ ط۔ ظ۔ ل۔ ن سٹشی حروف ہیں۔

☆۔ سٹشی اور قمری حروف سے شروع ہونے والے الفاظ کو جب اسم نکرہ سے اسم معرفہ بنائیں گے تو دونوں میں مندرجہ ذیل تبدیلی ہوگی اور ادائیگی تلفظ بھی جدا ہوگا۔

o۔ قمری حروف: بَيْتًا . اسم نکرہ ہے۔ ”اَل“ لگا کر اسے اَلْبَيْتُ ، اسم معرفہ بنائیں گے۔ تلفظ اَلْ بَيْتُ ہوگا۔ یعنی ”اَل“ کا ”ل“ پڑھا جائے گا۔

o۔ سٹشی حروف: الشَّيْطَانًا . اسم نکرہ ہے۔ اسم معرفہ بنانے کے لئے اس میں ”ش“ کا اضافہ کریں گے اور ”اَل“ لگا کر اسے اَلشَّيْطَانَ ، اسم معرفہ بنائیں گے۔ تلفظ اَشْ شَيْطَانَ ہوگا۔ یعنی ”اَل“ کا ”ل“ نہیں پڑھا جائے گا۔

يُنَ . وُنَ . (جمع بنانے کے لئے فعل کے آخر میں لگتے ہیں)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اگلی آیت :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿1/1﴾

